



4619CH15

عملی کام 1


آئیے ایک پھر کی بناتے ہیں، اس کے لیے ان ہدایات پر عمل سمجھے جنہیں شکل 15.2 میں دکھایا گیا ہے۔
پھر کی چھڑ کو ہاتھ میں پکڑ لیجیے اور اسے کسی کھلی جگہ میں مختلف سمتوں میں رکھیے۔ اسے آگے پیچھے حرکت دیجیے۔ مشاہدہ کیجیے کہ کیا ہوتا ہے۔



شکل 15.2 سادہ پھر کی بنانا




کیا پھر کی گھونمنے لگتی ہے؟ پھر کی کوئی گھما تا ہے متحرک ہوا، کیا ایسا نہیں ہے؟




شکل 15.3 ویدر کاٹ

ہم نے باب 9 میں مطالعہ کیا ہے کہ سبھی جاندار چیزوں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ شاید آپ نے ہوا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن بلاشبہ آپ نے اس کے دباؤ کوئی طرح سے ضرور محسوس کیا ہوگا جب درختوں کی پیتاں ہلتی ہیں یا تار پر لٹکے ہوئے کپڑے لہراتے ہیں تو آپ نے ہوا کو محسوس کیا ہوگا۔ جیسے ہی سچھے کا ٹین دبایا جاتا ہے تو کھلی ہوئی کتاب کے اور اق پھر پھر انے لگتے ہیں۔ متحرک ہوا کی وجہ سے ہی آپ کا پنگ اڑانا ممکن ہو پاتا ہے۔ کیا آپ کو باب 5 میں عملی کام 3 یاد ہے جس میں آپ نے ریت اور لکڑی کے برادے کو پھٹک کر علیحدہ کیا تھا؟ پھٹکنے کا عمل متحرک ہوا میں زیادہ موثر رہتا ہے۔ طوفان کے وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہوا بہت زیادہ رفتار سے چلتی ہے۔ یہ درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اور یہاں تک کے چھتیں بھی اڑ سکتیں ہیں۔

کیا آپ نے کبھی پھر کی گھمائی ہے (شکل 15.1)؟



شکل 15.1 مختلف اقسام کی پھر کیاں



شکل 4.15.4 خالی بوتل کے ساتھ تجربہ

کیونکہ ہوا کے خارج ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ جب بوتل کو ترچھا کیا گیا تو ہوا بلبلوں کی شکل میں باہر نکل گئی اور ہوا کے ذریعے خالی کی گئی جگہ میں پانی بھر گیا۔

اس عملی کام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔ یہ بوتل میں موجود تمام جگہ کو بھر دیتی ہے۔ یہ ہمارے اطراف میں ہر جگہ موجود ہے۔ ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔ یہ شفاف ہے۔

ہماری زمین ہوا کی ایک پلی پرت سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ پرت سطح زمین سے کئی کلو میٹر کی اونچائی تک پھیلی ہوئی ہے اور اسے کردہ باد (Atmosphere) کہا جاتا ہے۔ کردہ بار میں، ہم لوگ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں، ہوا کی مقدار میں کمی آتی جاتی ہے۔

آپ کو کیا لگتا ہے کہ اونچے پہاڑوں پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ آسیجن کے سلینڈر کیوں لے جاتے ہیں (شکل 15.5)؟

15.2 ہوا کس کیز سے بنی ہوئی ہے؟

is Air Made up of?

اٹھارویں صدی تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہوا صرف ایک شے ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔

کیا آپ نے ویدر کوک (Weather Cock) (شکل 15.3) دیکھا ہے۔ یہ کسی مخصوص جگہ پر ہوا کے چلنے کی سمت کو بتاتا ہے۔

15.1 کیا ہمارے اطراف میں ہر جگہ ہوا موجود ہے؟

Is Air Present Everywhere Around us?

اپنی مٹھی بند کیجیے۔ آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عملی کام کیجیے۔

عملی کام 2

کانچ کی ایک خالی کھلی بوتل لیجیے۔ کیا واقعی یہ خالی ہے یا پھر اس کے اندر کچھ ہے؟ اسے الٹ دیجیے، کیا اب اس کے اندر کچھ ہے؟ اب بوتل کے کھلے ہوئے منہ کو پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ڈبایئے جیسا کہ شکل 15.4 میں دکھایا گیا ہے۔ بوتل کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا پانی بوتل کے اندر داخل ہوتا ہے؟ اب بوتل کو تھوڑا سا جھکایئے۔ کیا اب پانی بوتل کے اندر داخل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو بوتل سے نکلنے والے بلیے دکھائی دیتے ہیں یا پھر کسی قسم کی بڑبرابر کی آواز (Bubbly Sound) سنائی دیتی ہے؟ کیا اب آپ اندازہ لگ سکتے ہیں کہ بوتل کے اندر کیا تھا؟

جی ہاں! آپ نے ٹھیک فرمایا۔ یہ ”ہوا“ ہے جو کہ بوتل کے اندر موجود تھی۔ بوتل پوری طرح سے خالی نہیں تھی۔ دراصل یہ مکمل طور سے ہوا سے بھری ہوئی تھی اس وقت بھی جب آپ نے اسے الٹ دیا تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پانی بوتل میں داخل نہیں ہو سکا تھا جب اسے الٹ دیا گیا تھا

ایک موم بتنی کو کسی کانچ کے برتن سے ڈھک دیجیے۔ دونوں موم تبیوں کا بغور مشاہدہ کیجیے۔

کیا دونوں موم تبیاں مسلسل روشن رہتی ہیں یا پھر بچھ جاتی ہیں؟

آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو موم بتنی کانچ کے برتن سے ڈھکی تھی وہ کچھ دیر میں بچھ گئی جب کہ دوسری موم بتنی لگاتار جلتی رہی۔



شکل 15.6 ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے۔

اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں غور کیجیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موم بتنی اس لیے بچھ گئی کیونکہ کانچ کے برتن کے اندر موجود 'جز'، ختم ہو گیا جو جلنے کے عمل میں مدد ہوتا ہے۔ جلتی موم بتنی نے اس جز کی زیادہ تر مقدار کو استعمال کر لیا۔ حالانکہ دوسری موم بتنی کو لگاتار ہوا کی فراہمی میسر ہے۔ ہوا کا وہ جز جو جلنے میں مدد کرتا ہے، آکسیجن کھلاتا ہے۔

نارتھ جن (Nitrogen)

عملی کام 3 میں کیا آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ موم بتنی کے بچھنے کے بعد بھی کانچ کی بوٹل میں ہوا موجود ہے۔ اس

ہوا متعدد گیسوں کا آمیزہ ہے۔ کس قسم کا آمیزہ ہے؟ آئیے اس آمیزے کے اہم اجزاء کا ایک ایک کر کے پڑتے لگاتے ہیں۔



شکل 15.5 پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ آکسیجن کے سلینڈر لے جاتے ہیں

آبی ابخرات (Water Vapour)

ہم پہلے ہی مطالعہ کر چکے ہیں کہ ہوا میں پانی کے ابخرات موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہوا کسی ٹھنڈی سطح کے رابطے میں آتی ہے تو یہ تکشیف ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی سطح پر پانی کی بوندی نظر آتی ہے۔ ہوا میں پانی کے ابخرات کی موجودگی قدرتی ماحول میں آبی دور (Water Cycle) کے لیے بہت اہم ہے۔

آکسیجن (Oxygen)

عملی کام 3


اپنے استاد محترم کی موجودگی میں، یکساں سائز کی دو چھوٹی موم تبیوں ٹیبل پر لگائیے۔ دونوں موم تبیوں کو روشن کیجیے۔

باقیات کو نہیں جلایا جائے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔

عملی کام 4

اپنے گھر یا اسکول میں ایسا کرہ تلاش کیجیے جہاں دھوپ آتی ہو۔ سبھی دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیجیے اور پردے گرا دیجیے تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے۔ اب اس کھڑکی یا دروازے کو جس کا رخ سورج کی طرف ہو معمولی سا اس طرح کھولیے کہ سورج کی روشنی صرف ایک جھری سے کمرے میں داخل ہو۔ کمرے میں آرہی روشنی کے بیم کو غور سے دیکھیے۔

کیا آپ کو روشنی کے بیم میں چھوٹے چھوٹے چمکدار ذرات حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں (شکل 15.7)؟ یہ ذرات کیا ہیں؟



شکل 15.7 ہوا میں موجود دھول کے ذرات کا سورج کی روشنی میں مشاہدہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں کوئی ایسا جزو ہے جو جلنے کے عمل میں معاون نہیں ہے۔ ہوا کا بڑا حصہ (جو کہ موم ہتی کہ جلنے میں مدد نہیں کرتا) ناٹروجن ہے۔ یہ کل ہوا کا 4/5 حصہ ہے۔

کاربن ڈائی آکسائڈ (Carbon Dioxide)


ایک بند کمرے میں، اگر کوئی شے جل رہی ہے تو آپ کو وہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ جلنے کے عمل کے دوران کمرے میں اکھٹا ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے اطراف میں موجود ہوا کا ایک چھوٹا سا جزو ہے۔ پودے اور جانور تنفس (Respiration) کے لیے آسیجن کا استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ جلنے کے دوران نباتاتی اور حیواناتی مادہ آسیجن استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں ساتھ ہی کچھ دیگر گیسیں بھی خارج ہوتی ہیں۔

دھول اور دھواں (Dust and Smoke)

اینہم کے جلنے کے نتیجے میں دھواں بھی پیدا ہوتا ہے۔ دھواں چند گیسوں اور مہین دھول کے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے اور عموماً نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فیکٹریوں میں اوپنچی اوپنچی چمنیاں دیکھیں ہوں گی۔ یہ چمنیاں نقصان دہ دھوئیں کو ہماری ناک سے دور لے جاتیں ہیں، لیکن آسمان میں پرواز کر رہے پرندوں کے نزدیک پہنچا دیتی ہیں! دھول کے ذرات ہوا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ سوکھی پتیوں اور فضلوں کی

کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے اپنے منہ سے سانس لی تھی تو آپ کے والدین نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دھول کے نقصان دہ ذرات آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔

اس طرح ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہوا چند گیسوں، پانی کے ابخرات اور دھول کے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہوا میں موجود گیسوں میں سب سے زیادہ ناکٹروجن اور آکسیجن گیسیں ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گیسیں موجود ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوائی ترکیب (Composition) میں کچھ تنوع پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں زیادہ تر ناکٹروجن اور آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ دراصل یہ دونوں گیسیں ہوا کا 99% حصہ کی تشکیل کرتی ہیں۔ باقی 1% حصہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گیسوں و آبی ابخرات کے ذرات پر مشتمل ہے (شکل 15.9)۔




سردیوں کے دوران آپ نے روشنی کے اسی قسم کے بیم کو درختوں سے چھن کر آتے ہوئے دیکھا ہوگا جس میں ذرات ادھر ادھر ناچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا میں دھول کے ذرات بھی موجود ہیں۔ ہوا میں دھول کے ذرات کی موجودگی وقتاً فوتاً اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

جب ہم اپنے تنفسوں سے سانس لیتے ہیں تو ہوا کو اندر لے جاتے ہیں۔ ناک کے اندر موجود بال اور مخاط (Respiratory System) میں دھول کے ذرات کو جانے سے روکتے ہیں۔

بوجھو آپ سے یہ معلوم کرتا ہے کہ شکل 15.8 میں ایک سپاہی ماسک کیوں پہنے ہوئے ہے؟



شکل 15.8 بھیڑ بھاڑ والے چوراہوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے سپاہی عموماً ماسک پہنے رہتے ہیں۔



شکل 15.9 ہوا کی ترکیب

15.3 پانی اور مٹی میں رہنے والے جانوروں اور پودوں کو آسیجن کی فراہمی کس طرح ہوتی ہے؟

عملی کام 5

کسی بیکر یا کانچ کے برتن میں تھوڑا سا پانی بیجیے۔ اسے ٹرانی پوڈ اسٹینڈ پر ہلکی آنچ پر گرم بیجیے۔ پانی ابلنے سے ٹھیک پہلے برتن کی اندر ورنی سطح کا بغور مشاہدہ بیجیے۔ کیا آپ کو اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے بلبلے نظر آتے ہیں (شکل 15.10)؟



شکل 15.10 پانی میں ہوا موجود ہوتی ہے۔

عملی کام 6

کسی گلاس میں بیکر میں ایک مٹھی خشک مٹی بیجیے۔ اس میں پانی ملائیے اور نوٹ کیجیے کہ کیا ہوتا ہے (شکل 15.11)۔ کیا آپ کومٹی سے بلبلے نکلتے نظر آتے ہیں؟ یہ بلبلے مٹی میں ہوا کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔

15.4 کرہ باد میں آکسیجن کی بھرپائی کس طرح

ہوتی ہے؟

the Atmosphere Replaced?

باب 7 میں ہم نے ضایاً تالیف (Photosynthesis) کا مطالعہ کیا ہے۔ اس عمل میں پودے اپنی غذا تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آکسیجن بھی خارج کرتے ہیں۔ پودے بھی تنفس کے لیے آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جتنی آکسیجن وہ استعمال کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔

یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جانور پودوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح پودے بھی جانوروں کے بغیر زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کرہ باد کی تمام کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کر لیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنوں کو ایک



شکل 15.12 ہوائی چکی



شکل 15.11 مٹی میں ہوا موجود ہوتی ہے۔

جب مٹی میں پانی ملا�ا جاتا ہے تو یہ ہوا کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے جو کے بلبلوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ عضویے جو مٹی کے اندر رہتے ہیں اور پودوں کی جڑیں اسی ہوا کی مدد سے تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ مٹی میں رہنے والے جانور مٹی میں کافی گہرائی تک کافی تعداد میں بل اور سوراخ بنایتے ہیں ان بلوں کی وجہ سے بھی ہوا مٹی میں آتی جاتی رہتی ہے۔ حالانکہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو مٹی میں ہوا کے ذریعے گھیری ہوئی تمام جگہوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ اس صورت میں مٹی میں رہنے والے جانور تنفس کے لیے مٹی سے باہر آ جاتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ صرف تیز بارش کے دوران یہی کچھوے مٹی سے باہر آ جاتے ہیں؟

کیا آپ کو کبھی اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ کرہ باد کی تمام آکسیجن ختم کیوں نہیں ہو جاتی جبکہ عضویوں کی بہت بڑی تعداد اسے استعمال کر رہی ہے؟ کون ہے جو کرہ باد میں آکسیجن کو دوبارہ سے بھردیتا ہے؟

استعمال ٹیوب ویل سے پانی کھینچنے اور آٹا چکلی چلانے میں کیا جاتا ہے۔ ہوائی چکلی کا استعمال بچلی پیدا کرنے میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہوا، گلائڈر، پیراشوت، ہوائی جہاز اور باد بانی کشتوں کو چلانے میں مدد کرتی ہے۔ پرندے، چمگاڑیں اور حشرے ہوا کی موجودگی میں ہی اڑ سکتے ہیں۔ ہوا بہت سے پودوں کے پھولوں کے زیرِ دانوں (Pollen) اور بیجوں کے انتشار (Dispersal) میں مدد کرتی ہے۔ ہوا آبی دور کو بنائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

دوسرے کی ضرورت ہے اور اس طرح کردہ باد میں آسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا توازن قائم رہتا ہے۔ اس سے پودوں اور جانوروں کے آپسی انحصار کا پتہ چلتا ہے۔

اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر زندگی کے لیے ہوا کتنی اہم ہے؟ کیا ہوا کے کچھ اور استعمال بھی ہیں؟ کیا آپ نے ہوائی چکلی یعنی (Windmill) کے بارے میں سنا ہے؟ شکل 15.12 میں دیکھیے۔

ہوائی چکلی، ہوا کی مدد سے گھومتی ہے۔ ہوائی چکلی کا

کلیدی الفاظ



کردہ باد
کاربن ڈائی آکسائیڈ
ہوا کی ترکیب
آسیجن
نائر و جن
دھواں
ہوائی چکلی

خلاصہ

- ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ ہم ہوا کو دیکھنہ سکتے لیکن اسے محسوس کر سکتے ہیں۔
- متحرک ہوا باد (Wind) کہلاتی ہے۔

- ہوا جگہ گھیرتی ہے۔
- ہوا مٹی اور پانی میں بھی موجود ہوتی ہے۔
- ہوا، آکسیجن، ناٹرودجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی املاح اور کچھ دیگر گیسوں کا آمیزہ ہے۔ کچھ دھول کے ذرات بھی ہوا میں موجود ہو سکتے ہیں۔
- آکسیجن جلنے کے عمل میں مدد کرتی ہے اور چاندار عضویوں کے لیے ضروری ہے۔
- زمین کے چاروں طرف ہوا کا غلاف کرہ باد کہلاتا ہے۔
- کرہ باد، زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے۔
- آبی جانور تنفس کے لیے پانی میں گھلی ہوئی ہوا استعمال کرتے ہیں۔
- ہوا سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تبادلے کے لیے پودے اور جانور ایک دوسرے پر مخصر رہتے ہیں۔

مشقیں ﴿ ﴾

- 1۔ ہوا کی ترکیب بیان کیجیے۔
- 2۔ ہوا میں موجود کون سی گیس تنفس کے لیے ضروری ہے؟
- 3۔ آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ جلنے کے لیے ہوا ضروری ہے؟
- 4۔ آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ پانی میں ہوا گھلی ہوتی ہے؟
- 5۔ سوتی اون کا گولہ پانی میں ڈالنے پر کیوں سکڑ جاتا ہے؟
- 6۔ زمین کے اطراف میں موجود ہوا کی پرت.....کہلاتی ہے۔
- 7۔ ہوا کا وہ جزو جسے ہرے پودے اپنی غذائیاً کرنے میں استعمال کرتے ہیں..... ہے۔
- 8۔ ایسے پانچ مشغلوں کا ذکر کیجیے جو ہوا کی موجودگی میں ہی ممکن ہیں۔
- 9۔ کرہ باد میں گیسوں کے تبادلے کے لیے پودے اور جانور کس طرح ایک دوسرے پر مخصر رہتے ہیں؟

محوزہ پروجیکٹ اور عملی کام

- 1۔ شفاف کا نج کی ایسی کھڑکی پر جس کا رخ کسی کھلے مقام کی طرف ہو، کاغذ کی ایک مستطیلی پٹی چسپاں کیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس پٹی کو ہٹائیے۔ کیا آپ کواس پٹی کی جگہ اور کھڑکی کی باقی جگہ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ہر مہینے اس عمل کو دہرانے کے بعد آپ کو سال کے مختلف اوقات میں آپ کے اطراف کی ہوا میں موجود دھول کی مقدار کا اندازہ ہو جائے گا۔
- 2۔ سڑک کے کنارے لگائے گئے درختوں، جھاڑیوں اور بوٹیوں کی پتیوں کا مشاہدہ کیجیے۔ نوٹ کیجیے کہ ان پتیوں پر کچھ دھول یا سیاہی موجود ہے۔ بالکل یہی مشاہدہ ان درختوں کی پتیوں کا کیجیے جو آپ کے اسکول کے احاطے میں یا باغ میں موجود ہیں۔ سڑک کے کنارے کے درختوں کی پتیوں پر سیاہی کے جماو میں کیا کچھ فرق نظر آتا ہے؟ اپنے شہر یا قصبے کا نقشہ لیجیے اور نقشہ پر ان علاقوں کی نشاندہی کیجیے جہاں آپ نے سڑک کے کنارے درختوں کی پتیوں پر سیاہی کی موٹی پرت کی موجودگی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اپنے نتائج کا موازنہ اپنے کسی ساتھی کے ذریعے اخذ کردہ نتائج سے کیجیے اور ان مقامات کی نقشہ پر نشاندہی کیجیے۔ شاید تمام نتائج کے خلاصے کی رپورٹ اخبار میں شائع ہو سکے۔